

POL - Ogólna konserwacja: Do usuwania kurzu należy używać miękkiej suchej szmatki i miękkiej wyciśniętej ściereczki po zanurzeniu w ciepłej wodzie (<50 °C) z łagodnym detergentem do usuwania lśysztych plam lub podobnych substancji. Nie stosować detergentów zawierających substancje ściernie lub rozpuszczalniki. Włączyć lampę dopiero po całkowitym odparowaniu wody.

W szczególności w przypadku szkła hartowanego. Szkło hartowane jest formowane ręcznie za pomocą tzw. piaskownicy. Ze względu na ten unikalny proces, w szkło mogą powąć się pecherzyki powietrza, podobnie jak grubość szkła może się różnić. Może to być postrzegane jako naturalna konsekwencja procesu ręcznego, która nadaje szkłu hartowanemu swoisty charakter i oryginalny wygląd.

Szkło hartowane należy zawazać czystość na zimno.

HRV - Opće održavanje: Za brisanje prašine koristite meku, suhu krpu, a za uklanjanje masnih mrlja ili slično upotrijebite meku krpu nakišavenu mlakom vodom (<50°C) i blagim deterdžentom. Nikada nemojte koristiti deterdžente koji sadrže abrazive ili otapala. Upalite svjetlo tek kada je voda u potpunosti isparila.

Specifično za slobodno puhanu staklo: Slobodno puhanu staklo se ručno oblikuje. Zbog tog jedinstvenog procesa moguća je pojava mješurica zraka u staklu, kao i razlika u debljini stakla. To se smatra prirodnom posljedicom ručnog procesa i daje karakter slobodno puhanom staklu i njegovomu organskom izgledu.

Slobodno puhanu staklo uvijek čistite hladnim sredstvima.

EST - Üldine hooldus: Tolmu puhastamiseks kasutage pehme kuiva lappi ja rasvaplekkide vms eemaldamiseks kasutage pehmet, puhastusvahendit ja leige veega (<50 °C) niisutatud pehmet lappi. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid või lahusteid sisaldavaid pesuvahendeid. Lülitage lamp sisse alles siis, kui vesi on aurustunud.

Täpsemalt vabalt puhutat klassi jaoks: vabalt puhutat klassi moodustatakse käsitsi. Selle ainulaadse protsessi tõttu võivad klassis tekkinud õhumullid, ka klassi paksumis vöib erineda. See on käsitööstressi loomulik tagajärg ning just see annab vabalt puhutat klassile karakteri ja orgaanilise väljuse.

Puhastage vabalt puhutat klassi alati külmana.

LVA - Vabalt puhanu staklo: izmantojiet mīkstu, sausu drānu puteklju sauclšanai un mīkstu drānu, kas izņemta nemaznā ūdenī (<50 °C), kurš satur vieglu filtrēšanas līdzekli, lai notīrītu staklu vai līdzīgus traukus. Nekad neizmantojiet filtrēšanas līdzekļus, kas satur abrazīvus vielas vai šķīdinātājus. Lampu ieslēdziet tikai tad, kad viss ūdens ir iztvaikojs.

Ipaši brīvi izpūstiem stikla izstrādājumiem: Brīvi izpūstis stiklis tiek veidots manuāli. Šī unikālā procesa dēļ stiklā var rasties gaišas burbuļi, kā arī stikla biezums var būt mainīgs. Tās ir normālas manuālā procesa sekas, kas brīvi izpūsta stikla izstrādājumiem piešķir raksturu un organisku izskatu.

Vienmēr tīriet brīvi izpūsta stikla izstrādājumus aukstā veidā.

LTU - Bendroji priežiūra: Dulkes valykite minkšta ir sausa šluoste, o riebalų bei panašias dėmes valykite minkšta šluoste, suvilgyta drungnu (<50 °C) vandeniui ir šveičia valymo priemonė. Valymui nenaudokite abrazyviu priemonių ir tirpalių. Lempą įjunkite tik kai išgaruos visas vanduo.

Gaminamius šio pūsto stiklo: Toks stiklas formuojamas rankiniu būdu. Kadangi tai unikalus procesas, stikle gali susiformuoti oro burbuliukai, be to, stiklo storis gali būti nevienodas. Tai yra natūrali rankomis atliekamo proceso pasekmė ir stikla stikla ypatingą išvaizdą bei natūralumą. Pūstą stiklą valykite šaltai.

SVK - Všeobecná údržba: Používajte jemnú, suchú handičku na prach a jemnú handičku navlhčenú v teplej vode (< 50 °C) s miernym čistiacim prostriedkom na odstraňovanie mastných škvŕn alebo podobných nečistôt. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom abrazív alebo rozpúšťadiel. Svetidlo zapnite iba po odparení všetkej vody.

Predovšetkým pri fúkanom skl: Fúkané sklo sa vyrába manuálne. Kvôli tomuto jedinečnému procesu môžu v skl vzniknúť vzduchové bubliny a zároveň sa môže líšiť hrúbka skla. Ide o prirodzený d dôsledok manuálneho procesu, ktorý fúkanému sklu dodáva jeho charakter a organický vzhľad.

Fúkané sklo vždy čistíte za studena.

HUN - Általános karbantartás: Használjon egy puha, száraz ruhát a portalanításhoz, és enyhén tisztítsa meg a maszt (<50°C) vizbe mártott és kicsavart puha ruhát a zsírfoltok és hasonló szemnyeződések eltávolítására. Soha ne használjon erősoldózt vagy oldószert tartalmú tisztítószert. A lámpát csak akkor kapcsolja fel, ha az összes víz elpárolgott.

Kifejezetten a fúvott üvegre vonatkozóan: A fúvott üveget kézzel formázzák. Az egyedi megmunkálásból adódóan légbuborékok lehetnek az üvegben, és az üveg vastagsága is változó lehet. Ez a kézi megmunkálás természetes velejárója, ami a fúvott üvegnek egyedi jellegét és természetes megjelenést ad.

A fúvott üveget mindig hidegen kell tisztítani.

ROM - Întreținere generală: Utilizați o cârpă moale, uscată pentru stergerea prafului și o cârpă moale, stănsă, umeziată în apă caldă (<50°C) cu detergent blând, pentru îndepărtarea petelor de grăsime sau a altor astfel de impurități. Nu utilizați niciodată detergenți care conțin substanțe abrazive sau solvenți. Aprindeți lampa doar după ce toată apa s-a evaporat.

Special pentru sticla sulfată liber este realizată manual. Din cauza acestui proces unic, se pot forma bule de aer în sticlă, iar grosimea acesteia poate varia. Este o consecință naturală a procesului manual și totodată este ceea ce conferă sticlei sulfatē liber caracterul specific și aspectul organic.

Sticla sulfată liber se curăță întotdeauna rece.

CZE - Běžná údržba: K odstranění mastných škvŕn nebo podobných nečistotí používejte suchý měkký hadřík na straně prachu a měkký hadřík namočený ve vlažné vodě (< 50 °C) s jemným čističím prostředkem. Nikdy nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní látky či rozpouštědla. Lampu rozsviňte až poté, co se všechna voda vypaří.

Speciálně pro ručně fúkané sklo: Foukané sklo se tvaruje ručně. Vlivem tohoto jedinečného procesu se mohou ve skl objevit vzduchové bubliny a může se také lišit tloušťka skla. To je přirozený důsledek této výroby a právě tyto vlastnosti dávají fúkanému sklu jeho charakter a přirozený vzhled.

Fúkané sklo vždy čistíte za studena.

SVN - Splošno vzdrževanje: Uporabite mehko suho krpjo za brisanje prahu, za odstranjevanje mastnih madežev pa ožeto mehko krpjo, ki je pred tem namočena v mlačno vodo (<50 °C) z blagim čistilnim sredstvom. Nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo abrazivne ali topila. Svetilko vklopite le nato, ko vsa voda izhlapi.

Velja posebej za prosto puhanu staklo: Prosto puhanu staklo se oblikuje ručno. Zaradi tega edinstvenega procesa lahko v steklu nastanejo mehurčki zraka, prav tako pa je debelina stekla lahko različna. To se upošteva kot naravna posledica ručne obdelave, zaradi česar prosto puhanu staklo dobi svoj poseben značaj in organski videz.

Prosto puhanu staklo vedno čistite hladno.

GRG - Γενική συντήρηση: Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για το ξεσκόνισμα και ένα μαλακό πανί που μουλιάσε σε χλιαρό νερό (<50 °C) με ένα ήπιο απορρυπαντικό για να αφαιρέσετε λεκέδες από λίπος ή κάτι παρόμοιο. Πάνε μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό που περιέχει λαϊνά ή διαλύτες. Ενεργοποιήστε τη Λάμπα μόνο αφού εξημεστή όλο το νερό.

Ζευκκρμμένα για φυσικό γυαλί: Το φυσικό γυαλί μορφοποιείται με το χέρι. Λόγω αυτής της μοναδικής διαδικασίας, μπορεί να εμφανιστούν φυσαλίδες αέρα στο γυαλί, όπως και το πάχος του γυαλιού μπορεί να ποικίλει. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως μια φυσική συνέπεια της χειροκίνητης διαδικασίας, και είναι αυτό που δίνει το φυσικό γυαλί τον χαρακτηριστικό και την οργανική εμφάνισή του.

Όα πρέπει πάντα να καθαρίζετε το φυσικό γυαλί όταν είναι κρύο. Οα πρέπει πάντα να καθαρίζετε το φυσικό γυαλί όταν είναι κρύο.

TUR - Genel bakım: Tozunu almak için yumuşak kuru bir bez, yağ lekelerini ve benzer lekeleri çıkarmak için ise hafif deterjanlı ılık suya (<50°C) batırılmış yumuşak bir bez kullanın. Ağırdnci veya eritici madde içeren deterjanları hiçbir zaman kullanmayın.

Lampayı ancak tüm su buharlaştıktan sonra yakın.

Özellikle serbest üfleme cam için: Serbest üfleme cam elle yapılır. Bu özel işlemin sonucunda camda hava kabarcıkları oluşabilir ve camın kalınlığı da deęişkenlik gösterbilir. Bu da serbest üfleme camı karakterleri ve organik görünümlünü verir ve elle yapımın doğal bir sonucu olarak görünebilir.

Serbest üfleme camı daima soğukken temizleyin.

BGR - Обща поддръжка: Използвайте мека, суха върна за прах и мека върна, напоена с хладна вода (<50°C) с мек почистващ препарат, за да премахнете масни петна или други подобни. Никога не използвайте почистващи препарати, съдържащи абразивно средство или разтворители. Включете лампата само след като цялата вода се е изпарила.

Специално за ръчно дувано стъкло: Ръчно дуваното стъкло се оформя ръчно. Поради този уникален процес, в стъклото може да има мехурчета и дебелината на стъклото може да варира. Това трябва да се разглежда като естествена последица от ръчния процес и е това, което придава на ръчно дуваното стъкло неговия характер и органичен вид.

Винаги почиствайте ръчно дуваното стъкло студено.

SRB - Opšte održavanje: Za brisanje prašine koristite meku, suhu krpju, a za uklanjanje masnih mrlja ili slično upotrijebite meku krpju rokvavenu mlakom vodom (<50 °C) i blagim deterdžentom. Nikada nemojte koristiti deterdžente koji sadrže abrazive ili rastvarače. Upalite svjetlo tek kada je voda u potpunosti isparila.

Specifično za slobodno duvano staklo: Slobodno duvano staklo se oblikuje ručno. Zbog tog jedinstvenog procesa moguća je p ojava mješurica vazduha u staklu, kao i odstupanja debljine stakla. To se smatra prirodnom posljedicom ručnog procesa i odlika je karaktera slobodno duvanog stakla i njegovog organskog izgleda.

Slobodno duvano staklo uvek očistite hladnim sredstvima.

RUS - Общее указание по уходу: Протрите мягкой сухой тканью для удаления пыли. Для удаления жирных пятен и т. п. используйте хорошо выжатую тряпку, смоченную в теплом мыльном растворе (<50 °C) из воды с мягким моющим средством. Ни в коем случае не используйте моющие средства, содержащие абразив или растворители. Включайте лампу только после полного испарения воды.

Особо для стеклозделаний свободного выдувания: Стеклозделания свободного выдувания (так называемое ручное стекло) изготавливаются без формы, вручную. Вследствие этого уникального процесса в стекле могут образовываться пузырьки воздуха, толщина стекла также может варьироваться. Это следует рассматривать как естественное следствие ручного процесса, придающее гутному стеклу его характерный, уникальный вид.

Мойте стеклозделания свободного выдувания только холодной водой.

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہلکے ہاتھوں سے خشک کپڑے سے گرد ہٹانے کے لیے اور تیل اور چکنے کے لہجے کو ہٹانے کے لیے گرم پانی میں ڈبوئی ہوئی اور چھلکا ہونے والی کپڑے استعمال کریں۔ کسی بھی صورت میں اسٹریچنگ یا دھوئی ہوئی کپڑے استعمال نہ کریں۔

معمومہ ہدایت: ہ